



سوال

(174) خفیہ نکاح جائز ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

نکاح جس میں مرد عورت اور مہر کا تعین کریں مگر کسی تیسرے آدمی کو خبر نہ ہو یعنی گواہوں کے بغیر شادی کر لی۔ کیا اس طرح کا خفیہ نکاح درست ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسا نکاح جس میں ولی اور گواہ موجود نہ ہو اور میاں بیوی کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس کا علم تک نہ ہو اس کے باطل ہونے پر فقہا امت کا اتفاق ہے کیونکہ گواہ اور اعلان نکاح یہ دونوں بنیادی ارکان ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت“ (سنن ابی داؤد للالبانی جزء الثانی رقم الحدیث ۱۸۶۵)

”یعنی حلال و حرام میں فرق اعلان و اظہار ہے۔“

جس نکاح میں اعلان یا جس کی عام شہرت نہیں ہوگی وہ باطل ہوگا۔ اس لئے مساجد میں نکاح کی سنت ادا کرنا بہتر اور افضل ہے تاکہ عام لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اور پھر نکاح کا مقصد ایسے آزادانہ تعلقات ہیں جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی جبکہ خفیہ شادی نہ صرف شک و شبہ کا محل ہوتی ہے بلکہ بعد میں بے شمار فتنوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ بہر حال وہی نکاح صحیح ہوگا جس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے ولی کی اجازت ہو اور وہ موجود ہو۔

ہذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ صراط مستقیم

ص 374



محدث فتویٰ